



CityNews

ABC CERTIFIED

Karachi

Pakistan is our oyster

citynews03@gmail.com www.citynews.com.pk



Vol. XXII No. 265 Pages: 04 Wednesday 08 October 2025 Rabi us Sani 14, 1447 Regd. No: MC-1211 Price Rs.15.00

DADABHOY SACK LIMITED NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting of Dadabhoy Sack Limited will be held on Tuesday the 28th October, 2025 at 3:30 p.m. at Plot # 28-30/C, Suite # 4, 2nd floor, Noor Center, Khayaban-e-Ittehad, Lane # 12, Phase-VII, DHA, Karachi to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

1. To read and confirm the minutes of 41st Annual General Meeting of the Company held on October 28th, 2024.
2. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the company for the year ended June 30, 2025 together with Directors and Auditors Reports thereon.
3. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2026 and fix their remuneration.
4. To transact any other businesses with the permission of the Chair.

Karachi
October 07, 2025

Order of the Board
Company Secretary

Note:

1. The Share Transfer Books of the company will remain closed from 21-10-2025 to 28-10-2025 (both days inclusive)
2. A member entitled to attend, speak and vote at this meeting, may appoint another person as his/ her proxy to attend, speak and vote on his / her behalf.
3. Proxy forms in order to be effective, must be completed and received at the Registered Office of the Company, duly stamped and signed, not less than 48 hours before the meeting.
4. All the members and the proxy holders need to verify their identity by showing original CNIC at the time of attending the meeting. In case of corporate entity, a certified copy of the resolution of the board of directors/valid power of attorney having the same name and specimen signature of the nominee should be produced at the time of the meeting.
5. The Financial Statement of the Company for the year ended June 30, 2025 will also be available at its official website:-
www.mhdadabhoy.com

باقاعد تصدیق شد اشاعت ABC CERTIFIED صبح کا مقبول اور مکمل اخبار

Daily RIASAT Karachi

روزنامہ
ریاست
بانی الیاس شاکر
کراچی

سال 27 بدھ 14 ربیع الثانی 1447ھ 08 اکتوبر 2025ء شماره 105

اداد بھائی سیک لمیٹڈ اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

ہر خاص و عام ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ دادا بھائی سیک لمیٹڈ کا 42 واں سالانہ اجلاس عام بروز منگل 28 اکتوبر 2025 بوقت شام 3:30 بجے بمقام پلاٹ نمبر 30-C، آفس نمبر 4، سکیٹڈ فلور، نور سینٹر، خیابان اتحاد، لین نمبر 12، فیز 7، ڈی ایچ اے، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

ایجنڈا

- 1۔ 41 ویں سالانہ جنرل مینٹنگ کے منٹس پڑھنے اور تصدیق کرنے کے لیے مورخہ 28 اکتوبر 2024 کو منعقد کمپنی کا۔
- 2۔ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی جائزہ رپورٹس کی وصول، غور و خوض اور اس کی منظوری۔
- 3۔ آئندہ سال 30 جون 2026 کیلئے بیرونی آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے ماؤنٹے کا تعین۔
- 4۔ صدر اجلاس کی اجازت سے پیش کئے گئے دیگر کسی اور معاملہ پر کارروائی۔

حسب الحکم بورڈ
(کمپنی ریکارڈری)

کراچی 07 اکتوبر 2025

نوٹ:

- 1۔ کمپنی کے شیئرز ٹرانسفر بکس 21 تا 28 اکتوبر 2025 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گے۔
- 2۔ کمپنی کا ہر وہ ممبر جسے اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے وہ اپنے بجائے کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا / کر سکتی ہے۔
- 3۔ پراکسی لازماً اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں وصول ہو جائیں۔
- 4۔ تمام ممبران اور پراکسی ہولڈرز کیلئے ضروری ہوگا کہ وہ اجلاس میں شرکت کیلئے اپنے اصل شناختی کارڈ کے ذریعے اپنی شناخت کی تصدیق کرائیں۔ کارپوریٹ و کمپنی کے ممبر ہونے کی صورت میں پراکسی کو بورڈ کی قرارداد یا اثاری کی طاقت کی دستاویز پیش کرنی ہوگی۔
- 5۔ کمپنی کے 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ حسابات بھی کمپنی کی ویب سائٹ www.mhdadabhoy.com پر بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔